



اللہ، لوگوں کے پروردگار، اے پریشانی کو دور کرنے والا! تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ثابت رحمہ اللہ سے کہا: کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھی: ”اللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ، مُدْهِبِ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا“ اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، اے پریشانی کو دور کرنے والا! تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ثابت البنانی رحمہ اللہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ دم نہ کروں جو نبی ﷺ کیا کرتے تھے؟ آپ نے اپنے رب سے مریض کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ اس سے مرض کی شدت، اس کی سختی اور تکلیف کو دور کر دے اور ایسی شفا دے جس کے بعد پھر سے مرض لوٹ کر نہ آئے علماء کا دم (رقیہ) کے جائز ہونے پر اتفاق ہے بشرطیکہ تین شرائط پائی جائیں: 1۔ یہ کلام اللہ یا اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہونا چاہئے 2۔ یہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی سمجھ میں آنے والا ہو مستحب ہے کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ ہو جو احادیث میں آئے ہیں 3۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ دم (رقیہ) میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں بلکہ اس میں تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5541>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

